

"ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اسلامی بہنوں کی بتکلف خیر خواہی اور عنخواری کرے یہاں تک کہ یہ اس کی عادت بن جائے۔"

"بغیر کام کے بھی کبھی کبھار مزاج پُرسی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیا جائے جو رابطے میں نہیں رہا اسے کال کر کے حال احوال پوچھ لیا کریں۔ (6 تا 9 اگست 2016ء شوری کا مدنی مشورہ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ہر سطح کی شعبہ مشاورتوں کو
 up date کرنے والے مدنی پھول
 زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے
 پئے شاہِ مدینہ دور ہوں رنج و الم موٹی

(وسائل بخشش ص 99)

الحمد لله عزوجل!

"خیر خواہی، عیادت اور نغمگساری سے اسلام پھیلا ہے، اسے اپنی عادت بنا لیجئے" الحمد لله عزوجل!
 امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کا معافی مانگنے اور اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کرنے والا انداز ہے۔ اسلامی بہنیں بھی معافی مانگنے اور دلجوئی والا انداز اختیار کریں۔ (6 تا 9 اگست 2016ء شوری کا مدنی مشورہ)
 آقا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی دکھیاری امت کی عنخواری اور دلجوئی کے عظیم جذبے کے تحت دعوت اسلامی کے زیر اہتمام آفتوں اور مصیبتوں مثلاً (اولاد کی نافرمانی، تنگ دستی، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ اور گھریلو ناچاقیوں وغیرہ) میں گھری ہوئی اسلامی بہنوں کے لیے ہفتہ دعائے دفع رنج و بلا منایا جا رہا ہے جس میں مذکورہ آزمائشوں میں گھری ہوئی اسلامی بہنوں کے لیے جمادی الآخر کے پہلے ہفتے (جمعرات تا بدھ تک) خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ ہو گا۔ ان شاء اللہ عزوجل!!

ہر سطح کی شعبہ مشاورتیں نیت فرمائیں کہ ہفتہ دعائے دفع رنج و بلا کے مدنی کاموں میں نہ صرف خود حصہ لیں گے بلکہ دیگر اسلامی بہنوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے۔ ان

شاء اللہ عزوجل